



”آدمی نہ اپنہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہ میں بھرا انسان کے لیے بس چند لقمہ کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک تہائی پانی پینے کے لیے ہو اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے خالی رہے۔“

مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا: ”آدمی نہ اپنہ پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہ میں بھرا انسان کے لیے بس چند لقمہ کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اور اگر زیادہ ہی کھانا ضروری ہو تو پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک تہائی پانی پینے کے لیے ہو اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے خالی رہے۔“
[صحیح] [اسے امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی کے ہمیں یہاں طب کا ایک اصول بتا رہے ہیں، جس سے انسان اپنی صحت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ اصول ہے کم کھانا کھانا کھانا بس اتنا کھایا جائے کہ انسان زندہ رہے اور ضروری کاموں کے لیے توانائی مل جائے۔ بھرا جائے والا سب سے بدترین برتن دراصل پیٹ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے نتیجے میں بے شمار ظاہر و باطنی بیماریاں جلد یا بدیر سامنے آتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر انسان کو پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہی ہو، تو ایک تہائی حصہ کے بے قدر کھانا کھاؤ، ایک تہائی حصہ کے بے قدر پانی پیو اور ایک تہائی حصہ سانس لینے کے لیے رکھو، تاکہ پریشانی، نقصان اور دینی و دنیوی فرائض کی ادائیگی میں سستی نہ ہو۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4723>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

